




અમીરે આહે સુન્નત سunnat કી કિતાબ "ઇઝાને રમાગાન" સે લિયે ગણે મવાદ કી પાંચવી કિસ્ત



Sahari Ka Durust Waqt (Gujarati)

સહરી કા દુરુસ્ત વક્તા

કુલ સંખ્યા 32



શૈખ તરીકત, અમીરે આહે સુન્નત, બાળિયે દા'વતે છટામી, હજરત અલ્હામા મૌલાના અનુ જિવાલ

મુહમ્માદ ઇલ્�યાસ અતાર કાહિરી રાગી

ડા. માસી



الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ يَسِّرْ لِلّٰهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

કિતાબ પઠને કી દુઆ

અજ : શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત, બાનિયે દા'વતે ઈસ્લામી હજરતે અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ મુહમ્મદ ઈલ્યાસ અતાર કાદિરી રજીવી

દીની કિતાબ યા ઈસ્લામી સભક પઠને સે પહુલે જૈલ મેં દી હૃદી દુઆ
પછ લીજિયે એ કુછ પઢેંગે યાદ રહેગા. દુઆ યેહ હૈ :

اللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَلَا شُرُّ
عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ يَا ذَكَرَ الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ

તરજમા : એ અલ્લાહ ! ઉંડું હિકમત કે દરવાજે ખોલ દે ઓર
હમ પર અપની રહમત નાખિલ ફરમા ! એ અઝમત ઔર બુઝુળી વાલે !

(المسطّرف ج 1، ص 4، دارالفکر بيروت)

નોટ : અવ્યાલ આભિર એક એક બાર દુરુદ શરીફ પછ લીજિયે.

તાલિબે ગમે મદીના

વ બકીઅ

વ મણિઝરત

13 શવાલુલ મુકર્મ 1428 હિ.

સાહિરી કા દુરુસ્ત વક્ત

યેહ રિસાલા (સાહિરી કા દુરુસ્ત વક્ત)


શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત, બાનિયે દા'વતે ઈસ્લામી
હજરત અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ મુહમ્મદ ઈલ્યાસ અતાર કાદિરી
રજીવી જિયાઈ ને ઉર્દૂ જાબાન મેં તહીરીર ફરમાયા હૈ.

ટ્રાન્સલેશન ડીપાર્ટમેન્ટ (દા'વતે ઈસ્લામી) ને ઈસ રિસાલે કો
ગુજરાતી રસ્મુલ ખત મેં તરતીબ દે કર પેશ કિયા હૈ ઔર મકતબતુલ
મદીના સે શાઅએ કરવાયા હૈ. ઈસ મેં અગર કિસી જગહ કમી બેશી પાએં
તો ટ્રાન્સલેશન ડીપાર્ટમેન્ટ કો (બ જરીઅએ મકતુબ, ઈમેઇલ યા sms)
મુજલાઅ ફરમા કર સવાબ કર્માઈયે.

રાબિતા : ટ્રાન્સલેશન ડીપાર્ટમેન્ટ (દા'વતે ઈસ્લામી)

મકતબતુલ મદીના, સિલેક્ટર હાઉસ, અલિફ કી મણિઝર કે સામને,
તીન દરવાજા, અહમદાબાદ-1, ગુજરાત, ઇન્ડિયા

MO. 9898732611 E-mail : hindibook@dawateislamihind.net



ફરમાને મુસ્તકાં : જિસ ને મુજ પર એક બાર દુરુદે પાક પઢા
અલ્હાખ ઉસ પર દસ રહમતો ભેજતા હૈ. (سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسِلِينَ)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسِلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ يَسِيرُ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ

૧ ૦ ૩ ૫ ૨ ૯ ૮ ૫ ૭ ૮ ૫ ૮ સહરી કા દુરુસ્ત વક્ત ૮ ૭ ૬ ૫ ૯ ૮ ૭ ૮ ૫ ૮ ૫ ૮

રોજે કી નિયત : મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈઓ ! રોજે કે લિયે નિયત શર્ત હૈ. લિધાજા “બે નિયતે રોજા અગર કોઈ ઈસ્લામી ભાઈ યા ઈસ્લામી બહન સુખે સાદિક કે બા'દ સે લે કર ગુરુબે આઝિતાબ તક બિલ્કુલ ન ખાએ પિયે તથ ભી ઉસ કા રોજા ન હોગા” (૩૧૩ ص) રમજાન શરીફ કા રોજા હો યા નફલ યા નજ્રે મુખ્યાન કા રોજા (યા'ની અલ્હાખ ઉંડોજ કે લિયે કિસી મખ્સૂસ દિન કે રોજે કી મન્નત માની હો મસલન ખુદ સુન સકે ઈતની આવાજ સે યું કહા હો, કે “મુજ પર અલ્હાખ ઉંડોજ કે લિયે ઈસ સાલ રબીઉલ અષ્વલ શરીફ કી હર પીર શરીફ કા રોજા હૈ.” તો યેહ નજ્રે મુખ્યાન હૈ ઔર ઈસ મન્નત કા પૂરા કરના વાજિબ હો ગયા.) ઈન તીનોં કિસ્મ કે રોજોં કે લિયે ગુરુબે આઝિતાબ કે બા'દ સે લે કર “નિસ્કુન્હારે શરૂઈ” (ઇસે ઝડપએ કુબ્રા ભી કહતે હોં) સે પહલે પહલે તક જબ ભી નિયત કર લેં રોજા હો જાઓગા. (દર્મખ્તાર વર્ષાનું ૩૧૩ ص)

નિસ્કુન્હારે શરૂઈ કા વક્ત મા'લૂમ કરને કા તરીકા : જિસ દિન કા નિસ્કુન્હારે શરૂઈ મા'લૂમ કરના હો ઉસ દિન કે સુખે સાદિક સે લે કર ગુરુબે આઝિતાબ તક કા વક્ત શુમાર કર લીજિયે ઔર ઉસ સારે વક્ત કે દો છિસ્સે કર લીજિયે પહલા આધા છિસ્સા ખત્મ



فَرَمَّاَنَ مُوسَىٰ : ﴿كَلَّا لَكَ عَلَيْهِ الْغُصَّةُۚ وَإِنَّكَ لَمُؤْمِنٌۚ﴾ : اُس شاپس کی ناک باک آواز ہو جس کے پاس مera
دیکھ لیو اور وہ سوچ پر ہو رہے پاک ن پاٹے۔ (توبہ)

ہوتے ہی ”نیزہنہارے شریعہ“ کا وکت شروع ہو گیا۔ مسلمان آج سوچھے سائیک ٹیک پانچ بجے ہے اور گزرے آئینہاب ٹیک ۶th بجے۔ تو دوسرے کے درمیان کا وکت کوئی ترک ڈھنٹے ہو گیا، اُن کے دو ہیسے کرے تو دوسرے میں کا ہر اک ہیسے ساہے ۶th ڈھنٹے کا ہو گیا۔ اب سوچھے سائیک کے پانچ بجے کے بآ'د والے ہیجڑا ایسے ساہے ۶th ڈھنٹے ساتھ میلیا لیجیے، تو اُس ترک دین کے ساہے ۷ یا ۸ بجے کے ہیروں بآ'د ”نیزہنہارے شریعہ“ کا وکت شروع ہو گیا تو اب اُن تین ترک کے روؤں کی نیت نہیں ہو سکتی۔ (رَبُّ الْمُتَّكَبِرِ ص ۲۹۳ مُنْخَصِّصًا)

بیان کردیا تین کیسم کے روؤں کے ہیلادا ڈیگار جیتنی بھی اکسماںے روؤا ہے (عن سب کے لیے یہ لایجی بھی ہے کہ راتوں رات یا'نی گزرے آئینہاب کے بآ'د سے لے کر سوچھے سائیک تک نیت کر لیجیے، اگر سوچھے سائیک ہو گئی تو اب نیت نہیں ہو سکے گی۔ مسلمان کجا اے روؤاے رہنمائی، کافرا رے کے روؤے، کجا اے روؤاے نافل (روؤاے نافل شروع کرنے سے واجیب ہو جاتا ہے، اب بے ٹکرے شریعہ توڈنا گناہ ہے۔ اگر کسی ترک سے بھی ٹوٹ گیا چھاٹ ٹکرے سے ہو یا بیلا (ٹکرے، اُس کی کجا بھر ہاتھ واجیب ہے) ”روؤاے نافلے گیرے بھوکھیاں“ (یا'نی اکٹھاں گراؤ جل کے لیے روؤے کی ماننا ت تو مانی ہو بھگر دین مophys ن کیا ہو اُس ماننا کا بھی پورا کرننا واجیب ہے اور اکٹھاں گراؤ جل کے لیے مانی ہوئی ہر شریعہ ماننا کا پورا کرننا واجیب ہے جب کے ابھاں سے اُس ترک کے اکٹھاں اُتھنی آوازا سے کھلے ہوں، کے بھوکھ سون سکے، مسلمان اُس ترک کہا : ”مُعَذَّبَاتِ اللَّهِ پر اکٹھاں گراؤ جل کے لیے اک روؤا ہے“ اب چونکے اُس میں دین مophys نہیں کیا کے کوئی

ਸਹਰੀ ਕਾ ਫੁਰੂਸਤ ਵਕਤ

કરમાને મુસત્કા : હુદુદે પાક પણ અલ્લાહ
 (طરાણી). જો સુન્ન પણ દસ મરતબા હુદુદે પાક પણ
 ઉસ પર સો રહમતો નાજિલ કરમાતા હૈ. આ ઉંગલ

ਸਾ ਰੋਝ ਰਖੁੰਗਾ ਲਿਹਾਜਾ ਜਿਨ੍ਦਗੀ ਮੈਂ ਜਬ ਭੀ ਮਨਨਤ ਕੀ ਨਿਧਤ ਸੇ ਰੋਝ
ਰਖ ਲੋਂਗੇ ਮਨਨਤ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਨਨਤ ਕੇ ਲਿਧੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਕਹਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ
ਔਰ ਧੇਹ ਭੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕੇ ਕਮ ਅਤੇ ਕਮ ਈਤਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਕਹੋਂ ਕੇ ਖੁਦ ਸੁਣ ਲੋ,
ਮਨਨਤ ਕੇ ਅਲੱਕਾਜ਼ ਈਤਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਅਦਾ ਤੋ ਕਿਥੇ ਕੇ ਖੁਦ ਸੁਣ ਲੇਤਾ ਮਹਾਰ
ਭਹਰਾ ਪਨ ਯਾ ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਕੇ ਸ਼ੋਰੋ ਗੁਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਵਜ਼ਲ ਸੇ ਸੁਣ ਨ ਪਾਯਾ ਜਬ
ਭੀ ਮਨਨਤ ਹੋ ਗਈ ਈਚ ਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾਞਿਬ ਹੈ) ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਈਨ
ਸਥ ਰੋਝਾਂ ਕੀ ਨਿਧਤ ਰਾਤ ਮੈਂ ਛੀ ਕਰ ਲੇਨੀ ਯਤ੍ਰੀ ਹੈ। (ਪਿਸਾ)

“ਮੁੜੇ ਮਾਣੇ ਰਮਾਨ ਸੇ ਪਾਰ ਹੈ” ਕੇ ਬੀਸ ਹੁਤ੍ਰੂ ਕੀ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਨਿਧਿ ਕੇ 20 ਮਹੀਨੀ ਫੂਲ

﴿١﴾ અદાએ રોજાએ રમજાન ઔર નજીરે મુખ્યન (યા'ની મુકર્રર કર્દી મનત) ઔર નજીલ કે રોજોં કે લિયે નિયત કા વકત ગુરુબે આફતાબ કે બા'દ સે જહુવાએ કુશા યા'ની નિર્સ્ઝુન્નહારે શરૂઈ સે પહલે પહલે તક હૈ ઈસ પૂરે વકત કે દૌરાન આપ જબ ભી નિયત કર લેંગે યેહ રોજે હો જાએંગે.) (૩૧૩ ص ૨૧૨ મહત્વાર્ગ દર્મખ્તાર)

﴿٢﴾ نਿਧਤ ਟਿਲ ਕੇ ਈਗਾਦ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਕਹਨਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਕਹ ਲੇਨਾ ਮੁਸ਼ਤਾਹਬ ਹੈ ਅਗਰ ਰਾਤ ਮੌਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨ ਕੀ ਨਿਧਤ ਕਰੋ ਤੋ ਧੂਕਿਏ **لَوْيَتُ أَنْ أَصُومُ عَدَّاً إِلَيْهِ تَعَالَى مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ** : ਤਰਫ਼ਮਾ : ਮੈਂ ਨੇ ਨਿਧਤ ਕੀ, ਕੇ ਅਲਲਾਹ ਕੇ ਲਿਧੇ ਕਲ ਈਸ ਰੋਜ਼ਾਨ ਕਾ ਝੰਗ ਰੋਜਾ ਰਖੁੰਗਾ।



فَرَمَأَنَّهُ مُعْسِكًا : كَلِيلُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : كِिसَ کے پاس مेरا جیک ہوا اور عس نے موج پر
ہڑتے پاک ن پਥਾ تھکੀک ਵੋਹ ਬਦ ਬਜ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ۔ (ابن سنتی)

﴿3﴾ اگر دین مें نियत کरें तो यूँ कहें : نَوْبَتٌ أَنَّ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ إِلَّا
غَرَجَلٌ تَعَافِ مِنْ قَرْضِ رَمَضَانَ -

के लिये आज इस रमजान का फर्ज रोजा रखूँगा। (جوہرہ ج ۱۷۰ ص)

﴿4﴾ ارबی में नियत के कलिमात अदा करने उसी वक्त नियत
शुमार किये जाएंगे जब के उन के माना भी आते हों, और
येह भी याद रहे के जबान से नियत करना खाल किसी भी
जबान में हो उसी वक्त कारआमद होगा जब के उस वक्त
दिल में भी नियत मौजूद हो। (ایضا)

﴿5﴾ نियत अपनी माद्री जबान में भी की जा सकती है, अरबी
में करें खाल किसी और जबान में, नियत करते वक्त दिल में
ઈरादा मौजूद होना शर्त है, वरना ऐ ख्याली में सिर्फ़ जबान
से रटे रटाए जुम्ले अदा कर लेने से नियत न होगी। इन
जबान से रटी हुई नियत कष ली भगव बाद में नियत के
लिये मुकर्ररा वक्त के अन्दर दिल में भी नियत कर ली तो
अब नियत सही है। (رَدُّ الْمُتَحَارِجِ ۳۳۲ ص)

﴿6﴾ اگر دین में نियत کरें तो ج़रूरी है के येह नियत करें के मैं
सुब्हे साइक से रोजादार हूँ. اگر इस तरह नियत की, के
अब से रोजादार हूँ सुब्हे से नहीं, तो रोजा न हुवा.

(جوہرہ ج ۱۷۰ ص و ردُّ الْمُتَحَارِجِ ۳۳۲ ص)

﴿7﴾ دین में वोह नियत काम की है के सुब्हे साइक से नियत करते
वक्त तक रोजे के बिलाक कोई अभ (यानी मुआमला) न पाया



کہا مانے مुٹکشنا ﴿كَلَّا إِنَّهُ عَلَى عِلْمِهِ الْأَكْبَرِ﴾ : جس نے بھوپار سو بھوپار شام دس دس بار ہو رہے پاک پاک اور اسے دیکھا ملت کے دین میری شاکن امت میلے گی۔ (مجمع الزواف)

گیا ہو۔ اعلیٰ بھتھا سو بھوپار ساٹھ کے بآ'د بھوپار کر بھا پی لیا یا جیما آکر لیا تب بھی نیتھت ساٹھ ہو جائے گی۔

(ملخص از رذ المختار ج ۳ ص ۲۶۷)

﴿8﴾ آپ نے اگر یوں نیتھت کی، کہ “کل کھڑی بآ'د وہت ہوئی تو رہا نہیں اور ن ہوئی تو رہا ہے۔” یہ نیتھت ساٹھ نہیں، آپ رہا دار ن ہوئے۔ (عالیٰ گیری ج ۱ ص ۱۹۰)

﴿9﴾ ماہِ رب جان کے دین میں ن رہے کی نیتھت کی ن یہ کہ “رہا نہیں” اگرچہ ماں لبم ہے کہ یہ رب جان نوں موبارک کا مہینا ہے تو رہا ن ہو گا۔ (عالیٰ گیری ج ۱ ص ۱۹۰)

﴿10﴾ گزرے آجھتباں کے بآ'د سے لے کر رات کے کسی وکھ میں بھی نیتھت کی فیروزہ اس کے بآ'د رات ہی میں بھایا پیا تو نیتھت ن ٹوٹی، وہ پھلی ہی کاٹی ہے فیروزہ سے نیتھت کرنا اکری نہیں۔ (جوہرہ ج ۱ ص ۱۷۰)

﴿11﴾ آپ نے اگر رات میں رہے کی نیتھت تو کی بھاگر فیروزہ رات پکھا ہر آدا کر لیا کہ “رہا نہیں رہنگا” تو اب وہ اپ کی، کی ہوئی نیتھت جاتی رہی۔ اگر نہیں نیتھت ن کی اور دین بھر رہا داروں کی ترک بھوکے پھاسے رہے تو رہا ن ہوا۔ (دری مختار ج ۳ ص ۳۹۸)

﴿12﴾ دیوارے نبماں کلاب (بھاتھیت) کی نیتھت تو کی بھاگر بات نہیں کی تو نبماں فاسید ن ہو گی۔ اسی ترک رہے کے دیوارے توڈنے کی سیف نیتھت کر لئے سے رہا نہیں ٹوٹے گا جب تک توڈنے والی کوئی چیز ن کرے۔ (جوہرہ ج ۱ ص ۱۷۰)



فِرَمَانِ مُسْتَكْشَفٍ عَنْهُهُ وَالْوَوْزُمْ: جِسْ كے پااس میرا تیک ہوا اور عس نے بوج پر
دُعَادِ شَرِيكَ نَ پَدَا (عس نے جفا کی۔ عبدالرازق)

**﴿13﴾ سہری بھانا بھی نیتھیت ہی ہے جوہ ماءِ رمزاں کے روئے کے
لیے ہو یا کسی اور روئے کے لیے بھگار جب سہری بھاتے
وکٹ یہاں ہردا ہے کہ سُبھ کو رोزا ن رپنگا تو یہاں سہری
بھانا نیتھیت نہیں۔ (۱۷۶ ص)**

**﴿14﴾ رمزاں نبھل موبھارک کے ہر روئے کے لیے نہیں نیتھیت ہرداری ہے.
پھلتی تاریخ یا کسی بھی اور تاریخ میں اگر پورے ماءِ
رمزاں کے روئے کی نیتھیت کر بھی لی تو یہاں نیتھیت سیکھ
उسی اک دین کے ہک میں ہے، باکی دینوں کے لیے نہیں۔ (۱۷۷ ص)**

**﴿15﴾ آدھا اور رمزاں اور نجڑے موبھاین اور نکل کے ہلاؤا
باکی روئے مسالن کجا اور رمزاں اور نجڑے گئے موبھاین
اور نکل کی کجا اور نجڑے موبھاین کی کجا اور کھنڈا
کا رोزا اور تما تو اے^۱ کا رोزا ہن سب میں ائے سُبھ
چمکتے (یا' نی تیک سُبھ ساٹک کے) وکٹ یا رات میں نیتھیت**

لینے

1: ہج کی تین کیسے ہیں (1) کیران (2) تما تو اے (3) ہلاؤا۔ کیران اور
تما تو اے والے پر ہج آدھا کرنے کے باہم بتوئے شوکانا ہج کی کربلا نی کرنا
والجیب ہے جب کے ہلاؤا والے کے لیے موبھاین۔ اگر کیران اور تمما تو اے والے
بھنگت لیا ہے میسکین اور مہماتا ج ہے بھگار کیران اور تمما تو اے کی نیتھیت
کر لی ہے اور اب ہن کے پاس ن کوئی کربلا نی کے لائیک جانوار ہے ن رکھ ن
ہی کوئی اسسا سامان وغیرا ہے جسے فروخت کر کے کربلا نی کا ہلنجام کر سکے
تو اب کربلا نی کے بدلے ہن پر دس روئے والجیب ہوں گے۔ تین روئے ہج کے مہینوں میں
یا' نی یکم شوکانی موبھرے سے نوں جوں لیلہ لیلہ لیلہ لیلہ لیلہ لیلہ
بآذنے کے باہم ہس بیچ میں جب یا ہے رج لے۔ ترتیب وار رجنا ہرداری نہیں،
ناما کر کے بھی رج سکتے ہیں۔ بہتر یہاں ہے کے سات، آٹھ اور نوں جوں لیلہ لیلہ لیلہ
ہر رام کو رجئے اور فیکر ترکھ لیلہ لیلہ لیلہ لیلہ لیلہ لیلہ لیلہ لیلہ لیلہ
جب یا ہے رج سکتے ہیں بہتر یہاں ہے کے ور جا کر رجئے۔



فَرِمَانُهُ مُعْسِنٌ : ﴿جَاءَكُم مُّنْذِلٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَمِنْ مَا كُنْتُمْ تَرْكُونَ﴾ (الحج، ٣٢)

کرننا جڑی ہے اور یہ بھی جڑی ہے کہ جو رोزا رخنا ہے
�اس یہی مخصوص روز کی نیထت کرئے۔ اگر یہن روزوں کی
نیထت دن میں (یا'نی سوچے سادھک سے لے کر جھوک اے کुکھا سے
پہلے پہلے) کی تو نہل ہوئے فیکر بھی یہن کا پورا کرننا
جڑی ہے، توئنگے تو کجا واژیب ہوگی، اگرچہ یہ بات
آپ کے یہل میں ہو، کہ میں جو روزا رخنا چاہتا ہا یہ
وہ روزا نہیں ہے بلکہ نہل ہی ہے۔ (۳۹۲ ص ۳ مختار)

﴿16﴾ آپ نے یہ گومان کر کے روزا رخا کے میرے لیبھے روزے کی
کجا ہے، اب رخنے کے بآ'د مآ'lūm ہووا کے گومان گلتات
थا۔ اگر ڈیر ان توڈ دے تو کوئی ہرگز نہیں، ایسا بھا
بھتار یہی ہے کہ پورا کر لے۔ اگر مآ'lūm ہونے کے ڈیر ان
بآ'د ن توڈا تو اب لازیم ہو گیا ہسے نہیں توڈ سکتے
اگر توئنگے تو کجا واژیب ہے۔ (۳۹۹ ص ۳ مختار)

﴿17﴾ رات میں آپ نے کجا روزے کی نیထت کی، اگر اب سوچو
شروع ہو جانے کے بآ'د ہسے نہل کرننا چاہتے ہے تو نہیں
کر سکتے۔ (ایضاً منہج) (۳۹۸ ص ۳ رذہ المختار)

﴿18﴾ دیوارے نماج بھی اگر روزے کی نیထت کی تو یہ نیထت
سہیہ ہے۔ (۳۹۸ ص ۳ رذہ المختار)

﴿19﴾ کوئی روزے کجا ہو تو نیထت میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ
رمزاں کے پہلے روزے کی کجا، دوسرے کی کجا اور اگر کوئی
یہ سال کے کجا ہو گے کوئی پیشلے سال کے باکی ہے تو یہ



فَرَمَّانَهُ مُوسَىٰ : ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ : جیسے پاس میرا ڈیکھ لیا اور اس نے بیچ پر
دُڑتے پاک ن پਢਾ (اُس نے جنپت کا راستا ڈیکھ دیا۔) (طباطبائی)

نیچت ہونی یا ہی کے ہر سر ہم جان کی کجا اور اس ہم جان
کی کجا اور اگر دین اور سال کی معافی (یا' نی
Fix) ن کیا، جب بھی ہو جائے گے۔ (۱۹۶ ص ۱۷)

﴿۲۰﴾ **۲۰﴾ آپ نے ہم جان کا روچا رجی لئے تو یا' د
کسٹن (یا' نی جان بُوڑ کر) توڑ ڈالا یا تو آپ پر ہر س
روچے کی کجا بھی ہے اور (اگر کف کسٹن کی شرائیت پاہی گئی
تو) ساٹ روچے کف کسٹن کے بھی۔ اب آپ نے ہر کسٹن روچے رجی
لیے کجا کا دین معافی (Fix) ن کیا تو ہر سے میں کجا
اور کف کسٹن دوں اور ہو گئے۔ (ایضاً)**

دَاهِيَ الْوَالِيَ الْبَطَحِيُّ ! : روچا اور دیگر آماں والی کی نیچتے
سیب نے کا جج بھا بے دار کرنے کے لیے تجھیے کو رخ آنے سو نت کی
آلو بھا ر جے ر سی یا سی تھریک، دا' واتے ہر سلما بھی کے سو نتے کی
تاریخیت کے ماننی کا فیلے میں آشیکانے ر سو ل کے ساتھ سو نتے برا
سکر کیجیے اور دوں جھانوں کی براکتے ہا سیل کیجیے۔ آپ
کی تاریخیت کے لیے ماننی کا فیلے کی ایک بھاشاہی و بھاشبودار
“ماننی بھا ر” آپ کے گوشہ گھا ر کرتا ہے یعنی ایک ہر سلما بھی
بھا ر کے بیان کا بھالا سا ہے کے ایک بار آشیکانے ر سو ل کے تین
دین کے ماننی کا فیلے میں ایک تکریبی 26 سالہ ہر سلما بھی بھا ر
کی شریک سکر ہے، وہ دو آپ میں بھوت گیری و جا ری کرتے ہے۔
ہر سلما سار (یا' نی پڑھنے) پر بھاتا یا کے میری ایک ہی ماننی مونی
ہے اور اس کے یہ ہر پر داہی کے بھال (عو گانے شو رخ ہو گئے ہے!) ہر س
کی وکھ سے بھو سبھ تکشیش ہے، اکس رے اور ٹیکسٹ و گی را سے سبھ



فرماں مुسٹکا: ﷺ : مुझ پر ہو روکے پاک کی کسرت کرو بے شک تु مھارا
مुझ پر ہو روکے پاک پہننا تु مھارے لیے پاکی جگہ کا بائیس ہے۔ (ابو عیان)

سامنے نہیں آتا رہا اور کوئی بھی ہلکا ج کارگار نہیں ہے پا
رہا۔ ان کی درجہ سات پر شرکاء مدنی کا فیکا نے ان کی
مدنی مੁੱਨੀ کے لیے ہو آئی۔ سفر مुکملا ہو جانے کے باعث جب
دوسرا دن اس ہو چکا رہا تھا جس سے مولانا کا ہر چیز تو انہیں نے
مسررت سے جو بھتے ہوئے یہ بخش بخوبی سونا ہے کہ ابھی نے
بتابا کے آپ کے مدنی کا فیکے میں سفر پر روانا ہونے کے دوسرا ہی
دین **الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** ہے تھا اور پر مدنی مੁੱਨੀ کے یہ ہر سے
باال ایسے گاہیں ہوئے ہیں جس سے کبھی یہ ہی نہیں!

سہری کرننا سونا ہے : اکتوبر ۱۹۷۶ء کے کروڑ ۲۵
کروڑ ایکسیان، کے اس نے ہم میں روکے جس سی ایسی میشان نے مات ہنا یا ت
فرما ہی اور سا� ہی کوپت کے لیے سہری کی ن سیکھ ہی جات
مہتمم فرمائی، بلکہ اس میں ہمارے لیے ہر دو سو ابھیتھی
رکھ دیا۔

بآج لوگوں کو دेखا گیا ہے کہ کبھی سہری کرنے سے ۲۴
جاتے ہیں تو فضیلیا یعنی کھلتے سونا ہے دتے ہیں : “ہم نے تو آج بیگیر
سہری کے روکا رکھا ہے !” مکنی مدنی آکا کے
دیوانو ! یہ فضیلیا کا ماؤکا ہرگز نہیں، سہری کی سونا ہوتا
پر افسوس ہونا یا ہم افسوس ! تا جدا ریساں لات
کی ایک ایسی سونا ہوتا گا۔

ہمارا سال کی ہبادت سے بہتر : ہمارے ساتھ ہونا شے بخ
شہر کو دیں ایسا بخ بخ بخ بخ شاہ فرماتے



ਫਰਮਾਨੇ ਮੁਸਤਕਾ : ﷺ : ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਮੇਰਾ ਜਿਕ ਹੈ ਔਰ ਵੋਹ ਸੁਝ ਪਰ
ਦੁਇਂ ਸ਼ਰੀਕ ਨ ਪਢੇ ਤੋਂ ਵੋਹ ਲਾਗੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। (مسند احمد)

ਹੈ : “ਅਲਲਾਹੁ ਰਖ਼ਬੁਲ ਈਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੁੜੇ ਅਪਨੀ ਰਹਮਤ ਸੇ ਈਤਨੀ ਤਾਕਤ
ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਗੈਰ ਖਾਏ ਪਿਧੇ ਔਰ ਬਿਗੈਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਕੇ ਭੀ
ਅਪਨੀ ਜਿਨਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਚੂਂਕੇ ਧੇਹ ਉਮੂਰ ਹੁਕੂਰੇ ਪੁਰਨੂਰ
ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਗਦੀਕ ਸੁਨਨ ਕੀ ਪੈਰਵੀ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਕੀ (ਨਫਲ) ਈਬਾਦਤ ਸੇ
ਬੇਹਤਰ ਹੈ।” ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਤਮਾਮ ਤਰ ਆਮਾਲ ਕਾ ਹੁਣਨੋ ਜਮਾਲ
ਈਤਿਹਾਏ ਸੁਨਨ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਰਖਿ ਜੂਲ ਜਲਾਲ ਮੁਹੱਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ
ਪਿਨਾਂ ਹੈਂ।

ਸੋਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਸਹਰੀ ਕੀ ਈਜ਼ਾਤ ਨ ਥੀ : ਈਬਿਦਾਅਨ ਰੋਜ਼ਾ
ਰਖਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗੁਰੂਬੇ ਆਫ਼ਤਾਬ ਕੇ ਬਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਖਾਨੇ
ਪੀਨੇ ਕੀ ਈਜ਼ਾਤ ਥੀ ਜਥ ਤਕ ਵੋਹ ਸੋ ਨ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਸੋ ਗਿਆ ਤੋ
ਅਥ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਕਰ ਖਾਨਾ ਪੀਨਾ ਮਮੂਅ ਥਾ। ਮਗਰ ਰਖਿ ਕੀਮ ਗੁੱਗੜੀ
ਨੇ ਅਪਨੇ ਘਾਰੇ ਬਨਦੋਂ ਪਰ ਐਹ ਸਾਨੇ ਅਜੀਮ ਫਰਮਾਤੇ ਹੁਏ ਸਹਰੀ ਕੀ
ਈਜ਼ਾਤ ਮਹੱਮਤ ਫਰਮਾ ਦੀ, ਈਸ ਕਾ ਸਥਾਨ ਬਧਾਨ ਕਰਤੇ ਹੁਏ ਖ਼ਾਈਨੁਲ
ਈਰਫ਼ਾਨ ਮੈਂ ਸਦਰੂਲ ਅਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਛੁਰਤੇ ਅਲਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਥਿਦ
ਮੁਹੱਮਦ ਨਈਮੁਦੀਨ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ ﷺ ਨਕਲ ਕਰਤੇ ਹੈਂ :

ਸਹਰੀ ਕੀ ਈਜ਼ਾਤ ਕੀ ਲਿਕਾਇਤ : ਛੁਰਤੇ ਸਥਿਦੁਨਾ ਸਰਮਾ ਬਿਨ
ਕੈਸ ਮੇਹਨਤੀ ਸ਼ਖਸ ਥੇ। ਏਕ ਦਿਨ ਬਹੁਲਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਅਪਨੀ
ਜਮੀਨ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਕਾਮ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਘਰ ਆਏ। ਅਪਨੀ ਜੈਜ਼ਾ
ਮੌਹਤਰਮਾ ਰੱਖਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇ ਖਾਨਾ ਤਲਬ ਕਿਯਾ, ਵੋਹ ਪਕਾਨੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੁਕ
ਛੁੱਢੀ। ਆਪ ਥਕੇ ਹੁਏ ਥੇ, ਆਂਖ ਲਗ ਗਈ। ਖਾਨਾ ਤਥਾਰ



فَرَمَّا نَبِيُّ مُوسَى: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُمَّ جَاهِنْ بَلْ بِهِ مُؤْجَزٌ پَرِ حُرُودٍ پَدِّهِ، كَمْ تُمَحَا رَأْ دُعُودٍ مُؤْجَزٌ تَكْ پَهْلَوْيَّتَهِ.

کر کے جب آپ کو جگایا گaya تو آپ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے بھانے سے ڈنکار کر دیا۔ کیونکے عn دنیوں (گزوئے آفتاب کے بآ'د) سو جانے والے کے لیے بھانا پینا بھناؤ ہو جاتا ہے۔ چوناً یہ بھانے پیتے بیگنے آپ نے دوسرا دن بھی رُؤْجُوا ر� لیا۔ آپ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کمچوئی کے سبب بہلوش ہو گئے۔ (تفسیر خازن ج ۱ ص ۱۲۶) تو عn کے ہک میں یہ آیتے مुکدسا نامیں ہیں:

وَلُكْوًا وَأَشْرُبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحِيطُ
إِلَّا بَيْضُ مِنَ الْحِيطُ إِلَّا سُودَ مِنَ الْعَجَرِ
ثُمَّ اَتَيْسُوا الصَّيَامَ إِلَى الْيَلَى^ص
(۱۸۷: ۲-۳، البقرة)

تَرَاجِمَ آنے کَنْجُولَ ۱۴۳۰ : اور
بھانے اور پیتے یہاں تک کے تُمَحَا رے
لیے یا ہی ہو جائے سکھی کا ڈوڑا
سیخاہی کے ڈوڑے سے پوٹ کر۔ فیکر
رَأَتَ آنے تک رُؤْجُوا پُورے کرو۔

یہ س آیتے مُکدسا میں رَأَتَ کو سیخاہ ڈوڑے سے اور سُبھے
سادیک کو سکھی ڈوڑے سے تشبیہ ہی گئی۔ مَانَا یہ ہے کے تُمَحَا رے
لیے ۲ مجاہد نُول مُبَاہِر کی راتوں میں بھانا پینا بھاہ (یا'نی
جایل) کردار دے دیا گیا ہے۔ (مجاہد نُول ۱۲۹، ص ۶۲ ب تسلیف)

میٹ میٹ ۱۲ سوامی بھائیو! یہ س سے یہ ہے بھی مَا'لُوم ہو گا کے
رُؤْجُوا کا اجڑا نے ۲۵ سے کوئی تَرَاجِمَ نہیں یا'نی ۲۵ کی اجڑا نے
دُوڑا نے بھانے پینے کا کوئی جواب نہیں۔ اجڑا ہو یا ن ہو،
آپ تک آوازا پہنچے یا ن پہنچے سُبھے سادیک سے پہلے پہلے
آپ کو بھانا پینا بُنڈ کرنے ہو گا۔



فَرَمَانَهُ مُوسَى : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَلَّ لَوْغَهُ أَنْ يَأْتِيَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَا تَرَكْتُمْ فَإِذَا قُلْتُمْ إِنَّا نَعْمَلُ مَا نَشَاءُ إِنَّمَا أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ

۹۰ ”سُنَّاتٍ“ کے تین ہزار کی نسبت سے ۹۰

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ۳ سَاهْرَيٌ كَمُوسِّعٍ وَكَتْلَةٌ مُوسَى

﴿۱﴾ رَوْجَى رَبِّنَهُ کے لیے سَاهْرَيٌ بَا کر کوپخت ہاسیل کرو اور دین (یاً نی دو پھر) کے وکت آرائی (یاً نی کللوں) کر کے رات کی ہبادت کے لیے تاکت ہاسیل کرو۔ (ابن ماجہ ج ۲۱ ص ۶۱ حديث ۳۲۱)

﴿۲﴾ تین آدھیں جیتنے کی بھائیوں میں ایک ہاسیل نہ ہوگا بشرطے کے بھانہ ہلواں ہو (۱) رَوْجَى دار ہفتاوار کے وکت (۲) سَاهْرَيٌ بھانے والوا (۳) مُعَاشید، جو اخْلَالٌ عَرْوَجَلٌ کے راستے میں سرکش ہبادت کی ہیئت کرے۔ (معجم کبیر ج ۱۱ ص ۲۸۵ حديث ۱۲۰۱۲)

﴿۳﴾ سَاهْرَيٌ پُوری کی پُوری برکت ہے پس تم نہ ٹھوڑے چاہے یہی ہو، کہ تم پانی کا ایک ہنگامہ پی لو۔ بے شک اخْلَالٌ عَرْوَجَلٌ اور یہ کوئی رحمت بے جاتے ہے سَاهْرَيٌ کرنے والوں پر۔

(مسند امام احمد ج ۴ ص ۸۸ حديث ۱۱۳۹۶)

کیا رَوْجَى کے لیے سَاهْرَيٌ شرط ہے؟ : سَاهْرَيٌ رَوْجَى کے لیے شرط نہیں، سَاهْرَيٌ کے بیچے بھی رَوْجَى ہو سکتا ہے مگر جان بُوچ کر سَاهْرَيٌ نہ کرنے کا مُناہِ سیب نہیں کے ایک اجڑیم سُنَّاتٍ سے بہتر ہے اور سَاهْرَيٌ میں بُوچ ڈال کر بھانہ ہی ٹکری نہیں، چنانچہ بُوچ کر پانی ہی اگر ب نیت سَاهْرَيٌ ہستی مال کر لے جب بھی کافی ہے۔

بُوچ اور پانی سے سَاهْرَيٌ : ہمارے سایہ دن انسان بین مالکیت کے تاکت دارے مَدِینَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُوچ رے کلبو



سہری کا دوسرست وکت

13

مددیں نظر
بُنْجَارَةِ

مددیں نظر
بُنْجَارَةِ

فَرَمَّانَهُ مُسْتَكْفًا : ﴿عَلَيْهِ تَعَالَى اللَّهُ وَسَلَّمَ﴾ : جس نے سوچ پر روزے جو مुआ خواہ دو سو بار دوڑتے پاک پਣ (उस کे दो सौ साल के गुनाह मुआका होंगे) (جع الجواب)

سینا نے سہری کے وکت مुझ سے فرمایا : “मेरा रोजा रखने का ईरादा है मुझे कुछ जिलाओ।” तो मैं ने कुछ खजूरें और एक बरतन में पानी पेश किया। (السُّنْنَ الْكَبِيرِ لِلنَّسَائِيِّ ج ٢ ص ٤٧٧ حديث ٨٠)

खजूर से سہری करना सुन्नत है : भीठ भीठ ईस्लामी भाईयो !

खजूर रोजादार के लिये एक तो सहरी करना बजाते खुद सुन्नत और खजूर से सहरी करना दूसरी सुन्नत, क्यूंकि अल्लाह तआला के हबीब से खजूर से सहरी करने की तरफी थी है। युनान्ये सचियेहुना साईब बिन यजीद से भरवी है, अल्लाह के घारे हबीब, हबीब लबीब ने खजूर से सहरी करने की तरफी थी है। या’नी खजूर बेहतरीन सहरी है।

(معجم کبیر ج ٧ ص ١٥٩ حديث ٦٦٨٩)

यَعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ . : एक और मकाम पर ईशांट फरमाया : या’नी खजूर मोमिन की क्या ही अच्छी सहरी है।

(ابوداؤد ج ٢ ص ٤٤٣ حديث ٤٤٥)

سہری کا وکت کब होता है ? : हनफ़ीयों के बहुत बड़े आलिम हज़रते अल्लामा भौलाना अली कारी رَحْمَةُ اللَّهِ أَبْرَارِي फरमाते हैं : “बा’जों के नजदीक سहरी का वक्त आधी रात से शुरूअ हो जाता है。”

(مرقة المفاتيح ج ٤ ص ٤٧٧)

سہری में ताखीर अफ़ग़ल है जैसा के हज़रते सचियेहुना या’ला बिन मुर्रह سे रिवायत है के घारे सरकार, मदीने के ताजदार ने खजूर से فرمाया : “तीन चीजों को अल्लाह



فرماتے ہیں : مुझ پر دُرُد شریف پہنچ، اعلیٰ اللہ عزوجلٰ تُم پر
رَحْمَتِي بَلَّغَنَا۔ (ابن عثیمین)

عَزَّوَجَلٰ مَهْبُوبَ رَبَّخَتَا هُنَّ (۱) دُرُدَتَارَ مِنْ جَلَّهُ اُوَّرَ (۲) سَهَرَيِ مِنْ تَآبَيِّرَ
اُوَّرَ (۳) نَمَاءَ (کِیَامَ) مِنْ حَلَّهُ اُوَّرَ حَلَّهُ رَبَّخَنَا۔ ”

(معجم آوسط ج ۵ ص ۳۲۰ حدیث ۷۴۷)

سہری میں تاابیر سے کیون سا وکٹ مُراؤد ہے ؟ : میڈ میڈ
ایسلاہی بھائیو ! سہری میں تاابیر کرنا مُسْتَحْبَہ ہے مگر ایتھنی
تاابیر بھی ن کی جائے کہ سُبھے ساٹک کا شعباً ہونے لگے ! یہاں جہنگیر
میں یہ سُووال پیدا ہوتا ہے کہ ”تاابیر“ سے مُراؤد کیون سا وکٹ ہے ؟
مُفْسَدِیسَرِ شَہِرِ ہَدَیَتِ مُبَلِّغِ عَمَّا تَرَأَى مُعْذَبَتی اَهْمَدَ یَا رَبَّخَان
”تَفَسِّرِ نَعْمَلِی“ میں فرماتے ہیں : ”ایس سے مُراؤد
رَاتَ کَا چَتَرَ ہِسَسَا ہے۔“ فِر سُووال جہنگیر میں عبرا، کے رات کا چتار
ہِسَسَا کے سے مَا’لُوم کیا جائے ؟ ایس کا جواب یہ ہے کہ گُرُوبے
آافتاب سے لے کر سُبھے ساٹک تک رات کھلاتی ہے۔ مسالن کیسی
دین سات بجے شام کو سُورج گُرُوبے ہووا اور فِر چار بجے سُبھے
ساٹک ہوئی۔ ایس ترک گُرُوبے آفتاب سے لے کر سُبھے ساٹک تک
جو نو گھنٹے کا وکھا گُرُورا ہوئے رات کھلاتی ہے۔ اب رات کے این
نو گھنٹوں کے برابر برابر ۶^۶ ہیسے کر دیجیے۔ ہر ہیسے کے
گھنٹے کا ہووا، اب رات کے آپسی ہیسے کے (یا نہیں آپسی ہیسے تا
چار بجے) کے دراں سُبھے ساٹک سے پہلے پہلے سہری کرنا تاابیر
سے کرنا ہووا۔ سہری و دُرُدَتَار کا وکٹ رُوٹا نا بدلتا رہتا
ہے۔ بیان کیے ہوئے ترک کے مُوتاپیک ۷ جب چاہئے رات کا چتار
ہِسَسَا نیکاں سکتے ہے۔ اگر رات سہری کر لی اور رُوٹے کی



فَرَبَّنِي مُسْكَنًا ﴿كَمْ لَأَنْتَ عَالِيٌّ عَلَيَّ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ : مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ پر کسرت سے دُوڑھست پاک پਥੇ بੇشਕ تੁਮਾਰਾ
ਮੁਆ پر دُوڑھست پاک پਥਨਾ ਤੁਮਹਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕੇ ਵਿਖੇ ਮਹਿਕਿਰਤ ਹੈ। (ابن حੋਤ)

ਜਿਥ੍ਯਤ ਭੀ ਕਰ ਲੀ। ਤਬ ਭੀ ਬਕਿਧਾ ਰਾਤ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਘਾ ਪੀ ਸਕਤੇ ਹੋਏ,
ਨਹੀਂ ਜਿਥ੍ਯਤ ਕੀ ਹਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।

ਅਜਾਨੇ ਫ਼ਜ਼ਲ ਨਮਾਯਾ ਕੇ ਲਿਧੇ ਹੈ ਨ ਕੇ ਰੋਯਾ ਬਨਦ ਕੁਰਨੇ ਕੇ ਲਿਧੇ ! :

ਬਾ'ਝ ਲੋਗ ਸੁਖੇ ਸਾਇਕ ਕੇ ਬਾ'ਦ ਫ਼ਜ਼ਲ ਕੀ ਅਜਾਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਘਾਤੇ
ਪੀਤੇ ਰਹਤੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਾ'ਝ ਕਾਨ ਲਗਾ ਕਰ ਸੁਨਤੇ ਹੋਏ ਕੇ ਅਭੀ ਝੁਲਾਂ
ਮਹਿਕਿਰਤ ਕੀ ਅਜਾਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੂਛ ਧਾ ਕਹਤੇ ਹੋਏ : ਵੋਡ ਸੁਨੋ ! ਫ਼ੁਰ ਸੇ
ਅਜਾਨ ਕੀ ਆਵਾਯ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ! ਔਰ ਧੂੰ ਕੁਛ ਨ ਕੁਛ ਘਾ ਲੇਤੇ ਹੋਏ。
ਅਗਰ ਘਾਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਪਾਨੀ ਪੀ ਕਰ ਅਪਨੀ ਇਸ਼ਿਲਾਹ ਮੈਂ “ਰੋਯਾ
ਬਨਦ” ਕਰਤੇ ਹੋਏ। ਆਹ ! ਇਸ ਤਰਹ “ਰੋਯਾ ਬਨਦ” ਤੋ ਕਿਧਾ ਕਰੇਂਗੇ ਰੋਯੇ
ਕੋ ਬਿਲੁਲ ਹੀ “ਖੁਲਾ” ਛੋਡ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਧੂੰ ਸੁਖੇ ਸਾਇਕ ਕੇ ਬਾ'ਦ ਘਾ
ਧਾ ਪੀ ਲੇਨੇ ਕੇ ਸਬਦ ਉਨ ਕਾ ਰੋਯਾ ਹੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ
ਭੂਕ ਘਾਸ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਉਨ ਕੇ ਹਾਥ ਆਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। “ਰੋਯਾ ਬਨਦ”
ਕੁਰਨੇ ਕਾ ਤਅਲੁਕ ਅਜਾਨੇ ਫ਼ਜ਼ਲ ਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਖੇ ਸਾਇਕ ਸੇ ਪਹਲੇ ਪਹਲੇ
ਘਾਨਾ ਪੀਨਾ ਬਨਦ ਕੁਰਨਾ ਝੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕੇ ਆਧਤੇ ਮੁਕਦਸਾ ਕੇ ਤਹਿਤ
ਗੁਜ਼ਰਾ। ਅਲਵਾਹ ਹੱਡ ਮੁਸਲਿਮਾਨ ਕੋ ਅਕਲੇ ਸਲੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ
ਔਰ ਸਹੀਹ ਅਵਕਾਤ ਕੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਰ ਕੇ ਰੋਯਾ ਨਮਾਯਾ ਵਗੈਰਾ ਇਖਾਦਾਤ
ਦੁਰਲੁਕ ਬਣਾ ਲਾਨੇ ਕੀ ਟੌਫ਼ੀਕ ਮਹੱਮਤ ਫਰਮਾਏ।

اَمِينٌ بِجَاهِ الْبَيِّنِ الْأَمِينِ ﷺ

ਖਾਨਾ ਪੀਨਾ ਬਨਦ ਕੁਰਨੇ ਦੀਜਿਧੇ : ਇਲਮੇ ਦੀਨ ਸੇ ਫ਼ੁਰੀ ਕੇ ਸਬਦ ਆਜ
ਕਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਗ ਅਜਾਨ ਧਾ ਸਾਈਰਨ ਹੀ ਪਰ ਸਾਹਿਰੀ ਵ ਇਫ਼ਤਾਰ ਕਾ ਢਾਰੋ
ਮਦਾਰ ਰਖਤੇ ਹੋਏ ਬਲਕੇ ਬਾ'ਝ ਤੋ ਅਜਾਨੇ ਫ਼ਜ਼ਲ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ “ਰੋਯਾ
ਬਨਦ” ਕਰਤੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਆਮ ਗਲਤੀ ਕੋ ਫ਼ੁਰ ਕੁਰਨੇ ਕੇ ਲਿਧੇ ਕਿਧਾ ਹੀ ਅਚਹਾ



فَرَمَّانَهُ مُسْتَشْفَى : ﷺ : جो مُوْلَى پر اُپنے دِن میں 50 بار دُورے پاک پڑے
کیا مبتلہ کے دِن میں وہ سے بُحْسَاءِ حَلَّہ کرے (یا انی لاث میلادی) گا۔ (ابن بشکوال)

ہو، کے رمزاں نے مُبَاہِرَک میں روْجَانًا سُبھے سَادِیک سے تین مِنَات پَهَلَیِہ ہر مُسْلِیمَد میں بُلَانَد آواز سے مَهْدَیٰ عَلیٰ مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَیٰ عَلَیٰ الْخَیْبَبٍ! صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَیٰ عَلَیٰ الْخَیْبَبٍ! کہنے کے باہم اس ترکتیں بار اے لان کر دیتا جائے: “آشِیکانے رَسُولَ مُتْعَذِّلَہِ لَہُ عَلَیْہِ السَّلَامُ ہے، آج سَاهِرِیٰ کا آبِیکِی وَکْت (مسکون) یا ر بَرَجَ کر بارہ مِنَات ہے، وَکْت بَتْمَہ ہو رہا ہے، فُرَنَ بَانَا پُیَّنَا بَنَدَ کر دیجیے، آجان کا ہر گیو ایجتیحاد ن فرمائیے، آجان سَاهِرِیٰ کا وَکْت بَتْمَہ ہو جانے کے باہم نہ مانے فَجَ کے لیے دی جاتی ہے۔”

ہر اُپنے کو یہ بات ٹھہرنا نہ شیری کرنی چکری ہے کہ اجانتے فَجَ سُبھے سَادِیک کے باہم ہی دنی ہوتی ہے اور ووہ ”رَوْجَانَ بَنَد“ کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیزِ نہ مانے فَجَ کے لیے دی جاتی ہے۔

صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَیٰ عَلَیٰ الْخَیْبَبٍ!

مَدْنَیٰ کَافِلَیٰ کی نِیَّات کر تے ہی مُوشِکِل آسَاں ہو گئی! : میڈ میڈ ایسلامی بَارَجَیو! تَجْلِیَ گوئِر آنے سُنَّت کی آلام بَارَجَیو گے ر سیِّاسی تہریک، داً وَتے ایسلامی کے سُنَّتَوْنَ کی تَرَبِیَّت کے مَدْنَیٰ کافِلَیٰ میں آشِیکانے رَسُولَ کے سَاتھ سُنَّتَوْنَ بَرا سَفَر فرماتے رہیے اسَّنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! ہُنْمَا و آبِرَت کی بے شُمَار بَلَادَیاں لاث آئے گی۔ آپ کی جائیک افسَرَت کے لیے مَدْنَیٰ کافِلَیٰ کی اُپنے ”مَدْنَیٰ بَلَادَ“ گُوشہ گُوئِر کرتا ہے، یعنَانے اُپنے ایسلامی بَارَجَیو کے بَدَلے بَارَجَیو کی شاہی کے دِن کریب آ رہے ہے، اب رَوْجَانَ کا ایجتیحاد نہیں ہے، ہر دن سَبْطَ تَشَویش ہے، کَرْ لَنے کا ٹھہرنا بھی نہیں بَن رہا ہے کے ادھار کرنے میں تَابِیِر کی سُورت میں جان سے یَاری



فَرَمَّاَنَ مُّسْكَنًا : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْكَبُورُ عَلَى مَنْ يَرِيدُ
بَرَوْجَارِیٰ جِیز نے ہونا میں سوچ پر قیادا ہوئے پاک پڑھ لے گے۔ (توبہ)

مَدِینَةِ نَبِيٰ تَهْرِیک، “دَا’وَتَهِ إِلْسَلَامِیٰ” کے نام پر بہتری لگا سکتا ہے۔ ایک دن اُنْتِیاہِ اُپرے شاہی کے آلام میں ۱۷۰۰ نے نماجِ ظاہر ادا کی اور دل ہی دل میں نیخت کی، کہ اگر رکਮ کا اُنْتِیاہ اُپرے گیا تو مَدِینَۃِ کَافِیلے میں سفر کی سआڈت ہاسیل کرے گا۔ نماج سے فراغت کے بآ’د ابھی نماجیوں سے بُولَاکاٹ اور اُنْدِرِ راہیٰ کوشیش میں مسڑک ہے کہ اُلَمَّام ساہیبؑ میں ریشتے میں ۱۷ کے تاریخان ہے اور ۱۷ کی پرے شاہی سے واکیف ہی۔ ۱۷۰۰ نے اُنْدِرے بُولَاچا اور ۱۷ کی پرے شاہی سے سُوپاال کے بُوند ہی رکم دنے کا وَا’دَا فرمایا۔ بُوند اُلَمَّامی بآہی دوسرے ہی دن مَدِینَۃِ کَافِیلے کے مُسَاکِنِ بُنَان گئے۔ مَدِینَۃِ کَافِیلے میں سفر کی نیخت کی برکت سے ۱۷ کی ۱۷۰۰ ہو گئی۔ تاریخ تے ہوتے وکٹ بارے کوئی تلوے دبے ہو گئے، کہ اُلَمَّام بُنَان کی شادی ہو گئی اور کوئی بھی ۱۷ کی ۱۷۰۰ ہو گی۔

کلبیٰ بھی شاد ہو، گھر بھی آباد ہو
کوئی ۱۷ کی شادی ہو گئی، بُوند اُلَمَّام کی شادی ہو گئی
کوئی ۱۷ کی شادی ہو گئی، بُوند اُلَمَّام کی شادی ہو گئی
(وَسَارَلِہ بِجِیش، ص 675)

صَلُوٰعَلَیْهِ الرَّحِیْبُ!

بھیڑ بھیڑ اُلَمَّامی بآہیو! دے بھا آپ نے! چوٹے بآہی کی مَدِینَۃِ کَافِیلے میں سفر کی نیخت کی برکت سے اُلَمَّام کوئی کوئی کوئی اُلَمَّام، رکم کا اے ہتیماں اور بُنَان کی شادی والی کام ہو گیا۔



فرمائے موسیٰ : ﴿كَلَّا إِنَّهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ الْوَسْلَمُ﴾ : جس نے مुझ پر اک مرتباً ہو رہ پڑا اعلیٰ احمد
عس پر دس رہنمائیں بے جاتا اور عس کے نام اے آماں مال میں دس نے کیا ویجھتا ہے۔ (ترینی)

کرج سے نجاہت کا امداد : ہر نماز کے بآ'د سات بار سو رے
کوئے شر (ابوال ابیر اک بار ہو رہ شریف) پڑ کر ہو آماں گیا۔
پھر جیتنا کرج ہو گا تب بھی ان شاء اللہ عزوجلٰ اے ادا ہو جائے۔
امداد تا ہو سو لے موراد جانی رہیں گے۔

کرج اور تاریخ کا وصیہ : اللہ عزوجلٰ اے حلال اے عن حرام اے
واعینی بفضلک عمن سوال (تاریخ ما : یا اعلیٰ احمد
ریزوک اتھا فرمایا کر ہر امام سے بچا اور اپنے فیضیو کریم سے اپنے
سیوا گیراں سے بے نیماز کر دے) تا ہو سو لے موراد ہر نماز کے بآ'د
11، 11 بار اور سو بھو شام 100، 100 بار رہنا (ابوال
و ابیر اک اک بار ہو رہ شریف) پڑھیے۔ ماروی ہو وہاں کے اک
مودودی نے ہزارتے مولانا کا ائمہ نات، اولیا مرتضیٰ شریعت پر
کہیں کہیں کی بارگاہ میں ارج کی : “میں اپنی کتابت
(یا'نی ایجادی کی کیمیت) ادا کرنے سے آجیں ہوں میری مدد
فرمایا۔” آپ نے کہیں کہیں اعلیٰ احمد عزوجله علیہ السلام
کلیمات ن سیخا گئے تو رسوی علیہ اعلیٰ احمد عزوجله علیہ السلام
سیخا ہے، اگر تum پر جبلے سیار² جیتنا ہے (یا'نی کرج)
ہو گا تو اعلیٰ احمد تاہل تعمیری تاریخ سے ادا کر دے گا، تum پر کہا
کرو : اللہ عزوجلٰ اے حلال اے واعینی بفضلک عمن سوال :
لینے

1 : مودودی عس گلاب کو کھلتے ہے جس نے اپنے اکا سے مال کی ادا اے گی کے
بدلے ایجادی کا معاہدہ کیا ہو وہاں۔ (جوہرہ ج ۲ ص ۱۴۲ ملخصاً)

2 : سیار اک پھر کا نام ہے۔ (النہایۃ ج ۳ ص ۶۱)

فَرَمَّانَ مُوسَىٰ : شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِيلِيَا كَرِيَا جِئِيَا مُوسَىٰ أُورِ رَوِيَا جِئِيَا مُوسَىٰ مُؤْجَرٌ پَرِ دُو روَدِ کِی کَسَرَتِ
کِرِيلِيَا کِرِيَا جِئِيَا آئِسَا کِرِيَا تِیَا بَتِ کِی دِنِ مِنِ اُسِ کِی شَافِیَّیَّہِ وَ گَلَّا ہَبَنْدَگَارِ۔ (شعب الانبیاء)

(تَرَجُّمًا : یاً اَخْلَاقَهُ عَزِيزَجَلْ ! مُؤْجَرِ الْحَلَالِ رِيزُوكَ اَتَّا فَرَمَّا کَرِ هَرَامَ سَے بَصَّارَ اُورَ اَپَنَے فَرَمَّلَوَ کَرَمَ سَے اَپَنَے سِیَّارَوْنَ سَے بَے نِیَّارَ کَرَ دَے)

(تَرْمِذِیٌّ حَدِیْثُ ۳۲۹ ص ۳۵۷)

سُبْحَنَ وَ شَآمَ کی تَآ’رِیْخ : آادی رات کے بآ’د سے لے کر سُورَج کی پھلی کِرَنِ یَمَکَنَّے تک سُبْحَنَ اُور ہَبْنِیَّاتِ اے وَکْتِ اُو ہُر سے گُرَبَے آَفَتَابَ تک شَآمَ کَھَلَاتَیَّ ہے۔

مَدْنَیٰ مَشْوَرَة : پَرِشَّانِ ہَالِ ہَلَلَامِیٰ بَارِیٰ کِی چَلِیَّے کے دآ’وَتَے ہَلَلَامِیٰ کے سُونَّاتِ کی تَرَبِیَّتِ کے مَدْنَیٰ کَسِیَّلِے مِنْ اَشِیَّکَانِ رَسُولِ کَے سَاتِ سُونَّاتِ بَرَا سَفَرَ کَر کے وَہَنَّ دُعَآ مَانِجَو، اَغَرَ بُعْدَ مَجَبُورٍ ہے مَسَلَّنِ ہَلَلَامِیٰ بَھَنَ ہے تو اَپَنَے ہَرِ مِنْ سے کِسیٰ اُور کِوں سَفَرَ پَرِ بِیَّجَوَا اے۔

ઈِفَتَارِ کا بَيَان : جَبَ گُرَبَے آَفَتَابَ کا یَکِینَ ہو جَائَے، ہَفَتَارَ کَرَنَے مِنْ دَرِ نَہِیٰ کَرَنَیٰ چَلِیَّے، نَ سَارِیَرَنَ کا ہَنْتِیَّا رَ کِیَجِیَّے نَ اَجَانَ کا، ہَلَلَنَ کَوِیٰ چِیَّوَ بَا یَا پَیِّ لَیِّجِیَّے بَرِجَرَ بَرِجَرَ یَا دُھَدَارَ یَا پَانِیٰ سے ہَفَتَارَ کَرَنَا سُونَّاتَ ہے۔ “فِتَّا وَا رَجَّوْيَا” مِنْ ہے، **سُوَالَّ :** رَوِیَا ہَفَتَارَ کَرَنَا کِسِ چِیَّوَ سے مَسْنُونَ (سُونَّات) ہے۔ **جَوَاب :** بُرَمَّا اے تَرَ (یَا’نِی بَرِجَر) اُور نَ ہو تو بُوشَکَ (یَا’نِی دُھَدَار) اُور نَ ہو تو پَانِیٰ۔

(فِتَّا وَا رَجَّوْيَا مُبَرَّجَا، جِ. 10، س. 628، 629)

ہَفَتَارِ کی دُعَآ : ہَفَتَارَ کَر لَئِنَے کے بآ’د مَسَلَّنِ بَرِجَرَ بَا کَر یَا ٹُوڈَا سَا پَانِیٰ پَیِّ لَئِنَے کے بآ’د سُونَّاتَ پَرِ اَمَلَ کَرَنَے کی نِیَّاتِ سے نَیِّرَے دَیِّ ہُرَیِّ دُعَآ بَھِی پَدِیَّے، کے مَدِینَے کے تَاجِدَارِ،

فَكَمْنَ مُسْتَكَا : عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهِ وَالْمَسْلَمْ : جو مُuj پر اُسکے بارے ہو رہا پڑتا ہے **اہلِحَاجَت** (عس کے لیے اُسکے کی رات اہل لیبختا ہے اور کی رات **عُوْدَه** پھاٹا جاتا ہے۔ عَدَالِ الرَّجَاحِ)

شَاهِنْشَاهِ اَبْرَارِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْمَسْلَمْ بِ وَكْتِ الْإِفْتَارِ یہ دُھ آ پڑتے ہیں اُن کے لیے دُھ آ پڑتے ہیں **رَزْقَكَ اَفْطَرُ** : (تَرَاجِمَ) اے اہلِحَاجَت ! میں نے تیرے لیے رہا رہا اور تیرے ہی اتنا کافی ریزک سے ہی فکتار کیا۔ (ابو داؤد ۲۴۴۷ ص ۲۳۵۸) **اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ** : اے اہلِحَاجَت ! جب تم رہماں کے مہینے میں رہا تو اُن کے بارے ہو رہا پڑتے ہیں اُن کے لیے دُھ آ پڑتے ہیں **رَزْقَكَ اَفْطَرُ** : (تَرَاجِمَ) اے اہلِحَاجَت ! میں نے تیرے لیے رہا رہا اور تیرے ہی اتنا کافی ریزک سے ہی فکتار کیا تو تعمیح اور لیے تماام رہے گاروں کی بیسیں اہل لیبخت اور یہ سکے تو جائے گا اور یہ سکے تو سواب میں بھی نہیں کی جائے گی۔ (بُيْغَةُ الْبَاحِثِ عَنْ زَوَادِ مَسْنُونِ الْحَارِثِ ج ۱ ص ۵۲۷ حديث ۴۹۱) **إِنَّ** دُھ آ کے بارے ہو سکتے تو مہینے دُھ آ کے وکتے کبھی لپٹتے ہوں گے۔

إِفْتَارِ کے لیے اجتنان شرط نہیں : ہی فکتار کی دُھ آ ہم میں کچھ اہل فکتار پڑنے کا رواج ہے مگر ہیما میں اہلے سُنّت مولانا شاہ احمد محدث رہا خان نے ”فِتَّا وَا رَجَلِيَّا“ (مع بر رج) جلد 10 سفہ 631 میں اپنی تہذیک پڑھی پہاڑ کی ہے کہ دُھ آ ہی فکتار کے بارے ہو پڑی جائے۔ ہی فکتار کے لیے اجتنان شرط نہیں، ورنہ یہ سکے تو اجتنان کے ساتھ مسماۃِ ایامِ مبارکہ کی نہیں یا اجتنان کی آواجائی نہیں آتی۔ بھرپور ہال اجتنان نہ مانے مگر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ جہاں مسماۃِ ایامِ مبارکہ ہوں! اُنہے نسبی! وہاں یہ دو تریکا رائج ہو جائے کہ جس سے ہی آفتاب غروب ہونے کا یکین ہو۔

જાએ, બુલન્દ આવાજ સે “صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ” કહણે કે બા’દ ઈસ તરફ તીન બાર એ’લાન કર દિયા જાએ : “આશિકાને રસૂલ રોઝા ઈફતાર કર લીજિયે.”

﴿۱﴾ “ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਗ ਐਰ ਕੇ ਸਾਥ ਰਹੇਂਗੇ ਜਿਥੁਂ ਤਕ ਇਫ਼ਤਾਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

(بخاری ج ۱ ص ۶۴۵ حدیث ۱۹۵۷)

ਈਤਾਰ ਕਰਵਾਨੇ ਕੀ ਅਜੀਮੁਖਸ਼ਾਨ ਫੀਲਤ

﴿۲﴾ “ਜਿਸ ਨੇ ਹਲਾਲ ਖਾਨੇ ਯਾ ਪਾਨੀ ਸੇ (ਕਿਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ) ਰੋਝ ਈਫ਼ਤਾਰ
ਕਰਵਾਯਾ, ਫਿਰਿਥੇ ਮਾਡੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਵਕਾਸ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਲਿਏ ਈਸ਼ਟਾਰ
ਕਰਤੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਜਿਥੀਲ ਸ਼ਬਦੇ (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) ਕਦਮ ਮੌਜੂਦ
ਈਸ਼ਟਾਰ ਕਰਤੇ ਹੋਣੇ।” (معجم کبیر ج ۶۲ ص ۲۶۲ حدیث ۶۱۶۲)

ਜਿਥੀਲੇ ਅਮੀਨ ਕੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਹਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਅਲਾਮਤ

﴿٣﴾ “જો હલાલ કમાઈ સે રમઝાન મેં રોજા ઈફતાર કરવાએ રમઝાન કી તમામ રાતો મેં ફિરિશ્ટે ઉસ પર દુરુદ ભેજતે હોય ઔર શબે કદ્ર મેં જિખ્રીલ (عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامُ) ઉસ સે મુસાફિહા કરતે હોય ઔર જિસ સે જિખ્રીલ (عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامُ) મુસાફિહા કર લેં (ઉસ કી આંખે અશ્કબાર હો) જાતી હોય ઔર (ઉસ કા દિલ નર્મ છો) જાતા હૈ.”

(جُمُعُ الْجَوَامِعِ ج ٧ ص ٢١٧ حديث ٢٢٥٣)

فَرَمَانَهُ مُسْتَشْفَى : مُعْذَلٌ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْهُوَ أَكْبَرُ
آمَانَةُ کَوْرِيٰ کِیْ تُعْصَمَارِیْ دُوْرِیْ دُوْرِیْ (فِدْرِیْسُ الْأَخْبَارِ).



﴿٤﴾ “जो रोजादार को पानी पिलाएगा अल्लाहू अँ उसे मेरे हौज से पिलाएगा के जन्नत में दाखिल होने तक ध्यासा न होगा।”

(ابن خُرَيْمَةَ ج ۳ ص ۱۹۲ حديث ۱۸۸۷)

﴿٥﴾ “जब तुम में कोई रोजा ईश्वरार करे तो भजूर या धृष्टार से ईश्वरार करे के बाहर भरकत है और अगर न भिले तो पानी से, के बाहर पाक करने वाला है。” (قونینی ج ۲ ص ۱۶۲ حديث ۱۹۵)

سَرَكَار : حَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْهُوَ أَكْبَرُ كَوْرِيٰ کِیْ ۝
अनंस से रिवायत है : “अल्लाहू अँ उसी उम्र में जबीब, जबीब लबीब नमाज से पहले तर भजूरों से रोजा ईश्वरार फरमाते, तर भजूरें न होतीं तो चन्द खुश्क भजूरें या'नी धृष्टारों से और येह भी न होतीं तो चन्द चुल्लू पानी पीते.”

(ابوداؤد ج ۲ ص ۴۴۷ حديث ۲۳۵۶)

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! अहादीसे मुबारका में سहरी और ईश्वरार में भजूर के ईस्ति'माल की तरगीब भौजूद है, बेशक भजूर में ला ता'दाद भरकतें और कई बीमारियों का ईलाज है.

۶۔ “سَرِيَّدِيٰ آَلَا ہَنَّرَتٰ کِی پَرَيَّسَوْنِيٰ شَرِيَّدٰ” ۶

۶ کے پश्चीम हुकुम की نियमत से भजूर के 25 मदनी ईल

﴿١﴾ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْهُوَ أَكْبَرُ کَوْرِيٰ کِی
سِلْحُدْتٰ نِيشَانٰ है : “आलिया” (या'नी मदीने में मुनव्वरह
में مस्जिद कुबा शरीफ की जानिब ऐक जगह का

فَرَمَّاَنَهُ مُسْتَشْفَى : شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَبِرَحْمَتِهِ : شَاءَ جُوْمُعَاً اُوْرَ رَوْجُوْمُعَاً مُوْجَ پَرَ كَسَرَتَ سَهِيرَیٰ ہُر دَنْ پَذِيرَ کَوْنَتْ کُوْسَدَارَا ہُر دَنْ مُوْجَ پَرَ پَرَشَا تِيَّا جَاتَا ہے۔ (طبراني)



- نام) کی ارجوا (مدائینے میں بُنَّیَّوْرَہِ تَعْظِیْمًا کی سب سے ارجیم بچوں کا نام) مें ہر بیماری سے شیفزا ہے۔” اُنکے ریوا�ت کے مुتابیک ”سَاهِرِیٰ رَوْجُوْمُعَا مُوْجَ پَرَ کَسَرَتَ سَاهِرِیٰ جُوْمُعَا (یا’نی کوڈ) مें نہ فَحَّصَ دَتَّا ہے۔“ (کامل لابن عدی ج ۷ ص ۴۰۷)
- ﴿2﴾ میठے میठے آکا، مککی مدانی مُسْتَشْفَى کا صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَالْهُمَّ سَلَّمَ فَرَمَّاَنَهُ جَنَّتَ نِیَّاشَانَ ہے : ارجوا بچوں جَنَّتَ سے ہے، اس مें جَنَّوْرَ سے شیفزا ہے۔ (ترمذی ۱۷ ص ۲۰۷۳ حدیث)
- ﴿3﴾ سَاهِرِیٰ اَبُو حُرَيْرَةَ عَنْ رَوْحَنِ اللَّهِ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے ریوا�ت ہے، بچوں پَانَے سے کُولَنْج (یا’نی بडی اُंتडی کا دَد) نہیں ہوتا۔ (بخاری ج ۳ ص ۵۴۴۰ حدیث)
- ﴿4﴾ تَبَّیِّبَوْنَ کے تَبَّیِّبَ، اَخْلَلَهُوْرَ کے اَخْرَجَلَ، اَبَبِیِّبَوْنَ کے لَبَبِیِّبَ، اَبَبِیِّبَوْنَ کے لَبَبِیِّبَ اَنْتَدَیِّبَوْنَ کے لَبَبِیِّبَ کا فَرَمَّاَنَهُ سِیَّدِ حَلَّتَ نِیَّاشَانَ ہے : “نَاهَارَ مُنْهَجَ بچوں بچوں آآओ اس سے پَتَّ کے کیڑے مَرَ جَاتَے ہے۔“ (الجامع الصَّفِیر ص ۳۹۸ حدیث ۶۳۹۴)
- ﴿5﴾ ہَرَتَ سَاهِرِیٰ رَبِّیِّبَوْنَ بَنَنَ بُوْسَمَے مَفَرَّمَاتَے ہے : “مَرَرَ نَاجَدَیِّکَ ہَبِیِّلَا کے لَیَّوَنَ بچوں سے اُوْرَ مَرِیِّجَ کے لَیَّوَنَ شَهَوَدَ سے بَهَتَرَ کِسَیِّ چَیَّوَنَ مِنْ شیفزا نہیں۔“ (تفسیرِ دُرِّ مَنْثُورِ ج ۵ ص ۵۰۰)

فَرَمَأَنِ مُوسَىٰ حَسَنًا : حَسَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْهُوَ سَلَّمَ : إِنَّمَا نَهَىٰكُمْ عَنِ الْمُحَرَّمِ مِنَ الْبَيْتِ مَذْكُورِهِ مُحَرَّمٌ

فرماں موسیٰ حسن : حسن اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم : ائمہ محدثین مذکور میں محرم مذکور ہے۔ (مسن)



﴿6﴾ سَمِيقَتِي مُحَمَّدُ أَهْمَدُ جَاهِبَيْهِ فَرَمَاتِهِ هُنَّا :

“ہامیلہ کو بچڑھنے بھیلانے سے کمزور ہو گا اور لڈکا پیدا ہو گا
جو کے بُو بُ سُو رت بُو دُبُار اور نرم بیجا ج ہو گا۔”

﴿7﴾ جو شاکے (یا' نی بُو) کی وچھ سے کمزور ہو گا اور اس کے
لیے بچڑھ بھوت مُحِیَّد ہے کُنُکے یہ گیا ایت سے برپور ہے
اس کے بھانے سے جلد تُوا نا ایت بھالہ ہو جاتی ہے، لیکن جا
بچڑھ سے یہ فتاویٰ کرنے میں یہ ہیکمتوں کی بھانی ہے۔

﴿8﴾ روچے میں فائرن بُرک کا ٹنڈا پانی پی لئے سے گئے، تب بھیرے
مے'دا اور جیگار کے ورم کا سچت بھتراء ہے، بچڑھ بھا کر
ٹنڈا پانی پینے سے نुکسان کا بھتراء تل جاتا ہے، مگر
سچت ٹنڈا پانی ہر گیج نہیں پینا چاہیے۔

﴿9﴾ بچڑھ اور ککڑی¹، نیج بچڑھ اور تر بُو بُ اسک ساتھ بھانہ
نابھیے کریم سے سا بیت ہے.² اس میں بھی
ہیکمتوں کے بھانی کھل ہے۔ تبیبوں کا کھننا ہے کہ اس سے
جینسی و جیسمانی کمزوری اور دُبُلیا پن دُور ہوتا ہے۔ مَعْنَان
کے ساتھ بچڑھ بھانہ بھی نابھیے کریم سے سا بیت ہے۔
(ابن ماجہ ح ۴ ص ۱۱۳۴ حدیث ۲۳۳۴)

﴿10﴾ بچڑھ بھانے سے پُرانی کچھ دُور ہوتی ہے۔

﴿11﴾ دمے، دیل، گوئے، مسانے، پیتے اور آنٹوں کے امراض میں بچڑھ
لینے

ل مسلم ص ۱۱۲۰ حدیث ۲۰۴۲۔ گ شماں قرولی ص ۱۲۱ حدیث ۱۹۰



فَرَمَأَنَ مُسْكَنًا : كَلِّ اللَّهُ أَعْلَمْ عَنِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ
مَرَا تِيزِکْ لَهُ أُورَ وَهَذِهِ مُسْكَنٌ فَرَمَأَنَ مَكَانَ نَفَدَهُ (تِيزِکْ)

مُسْكَنٌ دُعَى. يَهُ دُوَّارَ بَلَاغَمَ بَارِيجَ كَرْتَيِ، مُنَاحَ كَيْ بُوشَكَيْ دُوَّارَ
كَرْتَيِ أُورَ پَشَابَ آَواَرَ دُعَى.

﴿12﴾ دِيلَ كَيْ بِيَمَارِي أُورَ كَاتَلَا مُوتِيَّا كَيْ لِيَهَ بَجَوَرَ غُوَّلَيِ
سَمَطَتَ كُوَّتَ كَرَ بَانَا مُسْكَنٌ دُعَى.

﴿13﴾ بَجَوَرَ بِيَغُوَ كَرَ دِسَ كَا پَانِي پَيَ لِيَنَ سَهِ جِيَغَرَ كَيْ بِيَمَارِيَّا
دُوَّارَ هُوتَيِ دُعَى. دِسَتَ كَيْ بِيَمَارِيِ مَبَنَيَّ بَيَهَ پَانِي مُسْكَنٌ دُعَى.
(رَاتَ كَيْ بِيَغُوَ كَرَ سُبَّحَ نَهَارَ مُنَاحَ دِسَ كَا پَانِي پِيَهَ بَغَرَ
بِيَغُوَنَهَ كَيْ لِيَهَ پَانِي ڈَالَ كَرَ ڦِيزَرَ مَبَنَيَّ نَرَهَ)

﴿14﴾ بَجَوَرَ دُوَّدَ مَبَنَيَّ (عَبَالَ كَرَ بَانَا بَهَتَرَيِنَ مُوكَبَيِ (يَا'نِي
تَاكَتَ دَنَے ڦَالِي) گِيَزا دُعَى، يَهُ گِيَزا بِيَمَارِيِ كَيْ بَا'دَ كَيْ
کَمَّوَرِي دُوَّارَ كَرَنَهَ كَيْ لِيَهَ بَهَتَرَ مُسْكَنٌ دُعَى.

﴿15﴾ بَجَوَرَ بَانَهَ سَهِ جَلَدَيِ بَرَتَهَا دُعَى.

﴿16﴾ ڀَرَڪَانَ (يَا'نِي ڀَالِيَّا) كَيْ لِيَهَ بَجَوَرَ بَهَتَرَيِنَ دَوَاهَ دُعَى.

﴿17﴾ تَأَظَّا پَكَّيِ بَجَوَرَ سَفَرَا (يَا'نِي "پِيت") جِسَ سَهِ كَيْ كَيْ ڦَرَيَهَ
پَانِي نِيكَلَتَا دُعَى) أُورَ تَؤَاظَّا بِيَّتَهَ كَيْ بَتَمَ كَرَتَيِ دُعَى.

﴿18﴾ بَجَوَرَ كَيْ گُوَّلِيَّا آَغاَ مَبَنَيَّ جَلَادَهَ كَرَ ڻَسَنَ بَنَانَ
لَيِّجِيَهَ، يَهُ دَانَتَ ڀَمَڪَدَارَ أُورَ مُنَاحَ كَيْ بَدَبُو دُوَّارَ كَرَتَهَا دُعَى.

﴿19﴾ بَجَوَرَ كَيْ جَلَیِ ڻَرَدَ گُوَّلِيَّا كَيْ رَابَ لَگَانَهَ سَهِ جَمَّ كَا ٻُونَ
بَنَدَ هُوتَهَا أُورَ جَمَّ بَرَ جَاتَهَا دُعَى.

﴿20﴾ بَجَوَرَ كَيْ گُوَّلِيَّا كَيْ آَغاَ مَبَنَيَّ ڈَالَ دَوَنَهَ لِيَنَ سَهِ بَوَاسَيَّرَ
كَيْ مَسَسَ بُوشَكَهَا جَاتَهَا دُعَى.



کوہ مسٹھان میں : حَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَرِيدُ
کوہ مسٹھان پر سو رہنمائیں ناچیل کوہ مسٹھان پر اپنے دل میں
کوہ مسٹھان پر اپنے دل میں ملے۔ (طبرانی)

- ﴿21﴾** بَخْرُورُ کے درجت کی ۴۵۰۰ یا پتوں کی رابط سے مِنْجَن کرنے
دانتوں کے دَرْد کے لیے بُشِّیَّد ہے، ۴۵۰۰ یا پتوں کو پانی میں
ڈوبال کر اس سے کُلِّیلیَّات کرنے اور بھی دانتوں کے دَرْد میں فَاعِدہ
مِنْد ہے۔
- ﴿22﴾** جیسے بَخْرُور بھانے سے کیسی کِسْم کا نُوكسَان (side effect)
ہوتا ہو ووہ انمار کے رس یا بَشَبَاش یا کالی بِرْچ کے
ساتھ ڈسْتِ'مَال کرے گا۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّمَا فَاعِدَةُ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ
- ﴿23﴾** اَدَمِ پککی اور پُورانی بَخْرُور بَيْكَ وَکْت (یا'نی اُنکے ہی
وَکْت میں) بھانے نُوكسَان دے دے گا۔
ایسی ترہ بَخْرُور کے ساتھ اُنگُر یا کِشَمِیش یا مُنکَکَہ بیلہ
کر بھانے، بَخْرُور اور ڈنچُر بَيْكَ وَکْت بھانے، بیماڑی
سے ڈھنے ہی کمچوڑی میں جیسا دا بَخْرُور بَخْرُور بھانے اور آنڈوں کی
بیماڑی میں بَخْرُور بھانے مُعذِّر یا'نی نُوكسَان دے دے گا۔
- ﴿24﴾** اُنکے وَکْت میں ۵ تولہ (یا'نی ۵۸.۳۲ گرام) سے جیسا دا بَخْرُور
ن بھانے۔ پُورانی بَخْرُور بھانے وَکْت بھول کر اندر سے دُب
لی جیے کبُونکے اس میں بآج اَوَّلَ اَوَّلَ سُرُسُریاں (یا'نی چوڑے
چوڑے لال کیڑے) ہوتی ہیں، لیہاڑا ساکھ کر کے بھائیے۔ اِس
بَخْرُور میں کیڑے ہونے کا گُرمان ہو اسے ساکھ کیے بیگنے بھانے
مکرر ہے۔ بَيْنَمَا وَالے یہ مکانے کے لیے اکسار سارسوں کا تسل
لگا دے دے ہیں لیہاڑا بے ہتھ یہ دے کے بَخْرُور چند مِنْٹ کے
لیے پانی میں بھیگو دی جیے تاکہ مَجِیخیوں کی بیٹ اُور



ફરમાને મુસફ્કા : ﴿كَلَّا لِشَفَاعَةٍ لِّلْمُنْظَمِ﴾ : જિસ કે પાસ મેરા તિક હુવા ઔર ઉસ ને મુજ પર દુર્ઘટ પાક ન પઢા તહીક વોહ બદ બજ્ઞ હો ગયા. (ابن સ્ત્રી)

મૈલ કુચૈલ વગૈરા છૂટ જાએ ફિર ધો કર ઈસ્તિ'માલ ફરમાઈથે. દરખ્ત કી પકી હુઈ ખજૂરે જિયાદા મુફીદ હોતી હૈ. (મગર ધોએ બિગેર ખજૂરે બલ્કે કોઈ સા ફલ ઔર સભી વગૈરા ઈસ્તિ'માલ ન કરે વરના ગર્દા ગુબાર, માઝ્યાં, કિડે મકોડોં કી બીટ ઔર જરાસીમ કુશ દવાઓં કે અસરાત પેટ મેં જા કર બીમારિયોં કા બાઈસ હો સકતે હૈનું)

﴿25﴾ મદીનાએ મુનવ્વરહ કી ખજૂરોં કી ગુઠલિયાં મત ફેંકિયે, કિસી અદબ કી જગહ ડાલ દીજિયે યા દરિયા બુદ્ધ ફરમા દીજિયે, બલ્કે હો સકે તો સરોતે સે બારીક ટુકડિયાં કર કે યા પીસ કર રિબિયા મેં ડાલ કર જેબ મેં રખ લીજિયે ઔર છાલિયા કી જગહ ઈસ્તિ'માલ કર કે ઈસ કી બરકતે લૂટિયે. કોઈ ચીજ ખ્વાહ હુન્યા કે કિસી ભી જિતે કી હો જબ મદીનાએ મુનવ્વરહ કી ઝાંખાઓં મેં દાખિલ હુઈ તો મદીને કી હો ગઈ લિહાજા આશિકાને રસૂલ ઉસ કા અદબ કરતે હૈનું.

ક્યા હદીસ મેં બતાયા હુવા ઈલાજ હર એક કર સકતા હૈ :

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! બયાન કર્દી “ખજૂર કે 25 મદની ફૂલ” મેં મુખ્તલિફ અમરાજ મેં “ખજૂર” કે જરીએ ઈલાજ તજવીજ કિયા ગયા હૈ, ઈસ સિલ્સિલે મેં આયિન્દા સુતૂર કા બગૌર મુતાલાઓ નફાન બખ્શ પાએંગે. ચુનાન્યે (હદીસે પાક : إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مَرْجِعَهُ بَخْشًا وَ شَفَاءً مَنْ كُلَّ دَاءً إِلَّا السَّلَامُ.) મેં

فَرَمَّاَنَ مُوسَىٰ فَكَانَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُوْلَ مُؤْمِنٌ : جِئْسَ نَمَّ بُوْجَ پَرَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ شَامَ دَسَ دَسَ بَارَ حُرَّدَ
پَاكَ پَدَا عَسَىٰ كِيَامَتَ كَمِّ دِينِ مَهْرِيَ شَفَاعَتَ مَهْلِكَةَ (جمع الروايات)



مُؤْتَ کے سیوا ہر بیماری سے شیفڑا ہے ” کے تہذیت) مُعْسِسِ رَشْدِیِّ رَحْمَانِیِّ فَرَمَّاَتِے ہے :
عَمَّاَتَ ہَجَّرَتَ مُعْزَتِیَ اَهَمَّدَ یَارَ بَهَانَ عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْحَسَنَیِّ فَرَمَّاَتِے ہے :
ہر بَرَاجَ (مِنْ شِفَادَ) سے مُرَادَ ہر بَلَاجَیِّ اُورَ رَتْبَعَتَ کے اَمَرَاجَ
مِنْ (شِفَادَ ہے)، کَبُونَکَ کَلَوْنَچَ گَرْمَ اُورَ بُوشَکَ ہوتَیَ ہے لِیَهَاجَ مَرَتْبَعَ
(یَا’ نَیِّ تَرَیِّ وَالَّی) اُورَ سَرَدَیِّ کی بَیَمَارِیَوْنَ مِنْ مُعْزَدَ ہوَجَیِّ۔ آگے
چَلَ کَرَ بَجَیدَ فَرَمَّاَتِے ہے : يَلَانَ مُرَادَ اَرَبَ کی اَمَّ بَیَمَارِیَوْنَ ہے
(تَجَدُّد) یَا’ نَیِّ کَلَوْنَچَ اَرَبَ کی اَمَّ بَیَمَارِیَوْنَ مِنْ مُعْزَدَ ہے۔ بَخَالَ
رَهَے کے اَهَدَیِّ سے شَارِیَفَ کی دَوَاءَمَنْ کِسَیِّ ہَاجِیَکَ تَبَیَّبَ (یَا’ نَیِّ
مَاهِیَرَ تَبَیَّبَ) کی رَأَیِّ سے ۴۱۷ مَالَ کَرَنَیِّ یَاهِیَمَنْ (اَهَدَیِّ اَرَبَ کَوَ
تَجَوَّیِّ کَدَّیِّ دَوَاءَمَنْ) سِیَفَ (اَپَنَیِّ) رَأَیِّ سے ۴۱۸ مَالَ نَکَرَنَے کے
ہَمَارَے (تَجَدُّد) بَیَاجَ اَهَدَیِّ اَرَبَ کے (تَجَدُّد) بَیَاجَ سے جُدَادَانَا
ہے۔ (بِرَآءَاتُ، جِی. 6، س. 216، 217) سَائِیِّ ہی یَهَہَ بَیِّ بَیَاسَ تَأَکِّیدَ ہے
کے اَسَ کِتَابَ مِنْ دِیَّاً ہُوَوَا کَوَدَیِّ بَیِّ نُوسَبَا اَپَنَے تَبَیَّبَ سے مَشَوَّرَا
کِیَهَ بِیَجِیَرَ ۴۱۹ مَالَ نَکِیَہَ جَاءَهَ اَغَرَّیَ یَهَہَ نُوسَبَا عَسَیِّ بَیَمَارِیِّ
کے لِیَهَ ہُوَجِیَسَ سَعَادَ اَمَّ دَوَّیَارَ ہُوَنَے۔ ۴۲۰ پَادَ رَهَے ! لَوْجَوْنَ کی تَجَدُّدَ کِیَفِیَّتَ
جُدَادَ جُدَادَ ہوتَیَ ہے، بَسَا اَوَکَاتَ اَکَہَ ہی دَوَاءَ کِسَیِّ کے لِیَهَ شِفَادَ
وَ اَهَارَمَ کا بَارَدَسَ بَنَتَیَ ہے تو کِسَیِّ کے لِیَهَ مُؤْتَ کا پَيَامَ لَاتَیَ
ہے۔ لِیَهَاجَ اَهَارَمَ کی جِیَسَمَانِیَ کِیَفِیَّتَ سے وَکِیَفَ اَهَارَمَ کا مَبَسُوسَ
تَبَیَّبَ ہی یَهَہَ تَرَکَتَ کَرَ سَکَتا ہے کے اَهَارَمَ کوَ کُوِّنَ سَا نُوسَبَا مُوَافِکَ
اَسَ سَکَتا ہے اُورَ کُوِّنَ سَا نَہِیَ۔



فَرَمَأَنَ مُوسَىٰ : ﴿كَلَّا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ﴾ : کیس کے پاس میرا جیک ہوا اور اُس نے مुঁز پر
دُرُد شریف ن پਥا (عس نے جکا کی۔ عبدالرازق)

ઈفَتَارٍ کے وکتِ ہُر آئندہ کبُول ہوتی ہے : دो فرما بھینے مُوسَىٰ

(1) ﴿بَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ﴾ “بَشَّاكَ رَوْجَا دَارَ کے لیے یہ یفَتَار کے وکتِ اُک
ایسی ہُر آئندہ ہوتی ہے جو ۲۸ نَہْرٍ کی چلتی۔” (۱۷۵۳ حدیث ۲۰۰ ص)

(2) “تین شاپسون کی ہُر آئندہ ۲۸ نَہْرٍ کی چلتی ۱) بادشاہِ آٹھیل کی اور
۲) رَوْجَا دَار کی ب وکتِ یفَتَار اور ۳) مَجَلُوم کی۔ ۱۱ ن تینوں کی
ہُر آئندہ اخْلَالٌ عَزَّوجَلٌ بادلاؤ سے بھی ۱۱ پر ۱۱ لےتا ہے اور آسمان کے
دریواں پر اُس کے لیے بُول جاتے ہیں اور اخْلَالٌ (عَزَّوجَلٌ) فرماتا ہے :
“مُعَذَّبِی یہ یوْجُوت کی کسماں ! میں تری ۱۱ پر ۱۱ فرمائیں گا اگرچہ کوچ
دے بآ’د۔” (ایضاً ص ۳۴۹ حدیث ۱۷۰۲)

صَلُوٰعَلَى الْحَبِيبِ ! صَلُوٰعَلَى الْحَبِيبِ !

ہم بھانے پیونے میں رہ جاتے ہیں : یاَرِ رَوْجَا دَارُو ! اللَّهُ یفَتَار
کے وکتِ ہُر آئندہ کبُول ہوتی ہے، آئندہ ! یہ س کبُولیتھت کی بھی میں
ہم اپنے نہیں یہ س بُوكا پر سبھ اگامائیش میں پڑ جاتا ہے.
کیونکہ یہ س وکتِ اکسار ہمارے آگے انواع اکسام کے فلؤں،
کبَاش، ساموں، پکوڈوں کے ساتھ ساتھ گرمی کا بُوسیم ہو تو ۱۱ نے
۱۱ نے شربت کے جام بھی بُوچھ دھوتے ہیں، یہ دس سو راج گورن بھی ہوا،
وپر بھانوں اور شربتوں پر ہم اپنے ٹوٹ پଡتے ہیں کہ ہُر آئندہ ۱۱
نَہْرٍ رہتی ! ہُر آئندہ ۱۱ تو ہُر آئندہ ۱۱ کوچ یہ س خلابی بآئی یفَتَار کے
دُوران بھانے پیونے میں یہ س کوچ مَشْغُول ہو جاتے ہیں کہ ۱۱ کو نہ مائلے
مگریب کی پوری جماعت تک نہیں بھیلتی، بلکہ **مَعَاذَ اللَّهِ بآ’د**



فَرَمَّاَنِيَ مُسْكَنُكَ : كَلَّا إِنَّكَ عَالِيٌّ وَالْهُوَ أَكْبَرٌ : أَجَأَ مُعَذَّبَةَ جُنُونَكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ بِجَنَاحَيِّكَ . (جَعَ الْجَوَابِ) .



तो इस कदर सुस्ती करते हैं के धर ही में ईश्वरार कर के वहीं पर निर्गैर जमाअत नमाज पढ़ लेते हैं. तौबा ! तौबा !!!

जन्मत के तलब गारो ! ईतनी भी गङ्गलत मत कीजिये !!

नमाजे बा जमाअत की शरीअत में निष्ठायत सज्ज ताकीद आई है. याद रखिये ! बिला किसी सही शरूई मजबूरी के मस्जिद की प०४ वक्ता नमाज की पहली जमाअत तर्क कर देना गुनाह है.

गिर्जा से ईश्वरार के बा'द नमाज के लिये मुंह साझ करना झुक्री है : बेहतर येह है के एकआध खजूर से ईश्वरार कर के फौरन

अच्छी तरह मुंह साझ कर ले और नमाजे बा जमाअत में शरीक हो जाए. आज कल मस्जिद में लोग फल पकोड़े वजैरा खाने के बा'द अच्छी तरह मुंह साझ नहीं करते यूं ही जमाअत में शरीक हो जाते हैं हालां के गिर्जा का मा'मूली झर्ना या जाएका भी मुंह में नहीं होना चाहिये के मेरे आका आ'ला भारत, ईमाम अहमद रजा खान

फरमाते हैं : मुतअद्दिद अहादीस में ईश्वर्दि हुवा है के “जब बन्दा नमाज को खड़ा होता है फिरिशता उस के मुंह पर अपना मुंह रखता है येह जो पढ़ता है इस के मुंह से निकल कर फिरिशते के मुंह में जाता है उस वक्त अगर खाने की कोई शै उस के दांतों में होती है मलाएका को उस से ऐसी सज्ज ईजा होती है के और शै से नहीं होती.” हुझूरे अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले मोहूतशमَ عَلَيْهِ وَالْهُوَ أَكْبَرَ نे फरमाया : जब तुम में से कोई रात को नमाज के लिये खड़ा हो तो चाहिये के भिस्वाक कर ले क्यूंके



فَرَمَّانَ مُوسَىٰ : ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ : جِئِسْ کے پاسِ مِرَا جِیکِ ہُوا اُورْ (عِزْ) نے مُوجِ ۝ ۝
دُوڑِ پاکِ ن پਥا (عِزْ نے جِنْنَتِ کا رَسْتَا ڈھوڈھیا)۔ (طبرانی)

جب ووہ اپنی نماز میں کیرا ات کرتا ہے تو فِرِیشْتَا اپنا مُنْعَلِ ۝ ۝
کے مُنْعَلِ ۝ ۝ پر رَبِّ لَتَّا ہے اُور جو چیزِ ۝ ۝ کے مُنْعَلِ سے نِکَلَتِی ہے ووہ
فِرِیشْتَے کے مُنْعَلِ میں دَابِیلِ ہو جاتی ہے۔^۱ اُور ”تَبَرَّانِی نے كَبَّیِّر“ میں
ہُوڑتے سَعِیدْ حُنَّا اَبُو عَصَمَهُ اَنْسَارِی عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے رِیَاضَت
کی ہے کہ دُوِنَّوں فِرِیشْتَوں پر ۝ ۝ سے جِیَادَا کَوَافِیْ چیزِ ۝ ۝ نَہِیْنَ کے ووہ
اپنے سَاطِھی کو نمازِ پَثَتَا دے بے اُور (عِزْ) کے دُوِنَّوں میں بَانِے کے رَجَے فِنْسے ہوں۔

(۶۰۶۱، ۱۷۷ مصْبِحَ کَبِيرَ حِجَّةٍ) فِتَاهَا رَأَيْتَهُ مُعَبَّرَّاً، جِی. ۱، س. 624،
625) مَسْجِدٍ میں ۝ ۝ کِفَّارَ کَرَنے والوں کے لیے اَكْسَرَ مُنْعَلِ سَافِیْ کَرَنَا
دُعْشَوَارَ ہوتا ہے کہ اَعْذَبَ تَرَهَ سَفَاهَ کَرَنے بَيْدَتْ تَوْ جَمَاعَتِ نِکَلَ
جَانِے کا اَنْدَشَاءَ ہوتا ہے لِیَهَا مَسْوَرَا ہے کہ سِرِّ اَكْبَارِ بَرْجُورِ
بَا کَرَ پَانِي پی لِیں پَانِي کو مُنْعَلِ کے اَنْدَرَ بَرْ بَرِ جُمِيشَ دِنْ یَا’نِی
بِلَالِ اَنْتَهَا تَاکے بَرْجُورِ کی بِهَادِس اُور (عِزْ) کے اَجْرَاءَ ۝ ۝ کَرَ پَانِي کے
سَاعَ پَتَ میں چَلَے جَا اَنْتَهَا جَرَرَتَنَ دُوِنَّوں میں بِلَالِ بَھِی کَرَے۔ اگر مُنْعَلِ
سَافِیْ کَرَنے کا مُؤْكَدَ نِمَلَتَا ہو تو آسَانِی ۝ ۝ میں ہے کہ سِرِّ
پَانِی سے ۝ ۝ کِفَّارَ کَرَ لَيْلِیْجِیْ۔ مُجَزَّے ووہ رَجَے دَارَ بَدَلَ پَیَارِ لَغَتَتْ ہے
جو تَرَهَ تَرَهَ کی نِمَتَوں کے والوں سے بے نِیَاضَ ہو کَرَ گُرُوبَ
اَسْتَهَابَ سے پَھَلَے پَھَلَے مَسْجِدَ کی پَھَلَیِ سَفَہِ میں، پَانِی لِے کَرَ بَيْثَ
جَا اَنْتَهَا کے ۝ ۝ تَرَهَ ۝ ۝ سے جَلَدَیِ فَرَاغَتَ بَھِی بِلَالِ، مُنْعَلِ بَھِی سَافِیْ
رَهِ اُور پَھَلَیِ سَفَہِ میں تَکَبَّرِیِ ۝ ۝ کے سَاعَ بَا جَمَاعَتِ نَمَاءَ
بَھِی نَسَبَیَ ہو جَا اَنْتَهَا۔

دینے

۱ شَعْبُ الْأَيَمَانِ حِجَّةٍ رقم ۳۸۱، رقم ۲۱۱۷

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله عنه والصلوة والاسلام على ائمۃ الشیعۃ والشافعیین



કુરાન શફાઅત કર કે જગ્નત મેં લે જાઓ॥

ફરમાને મુસ્તફા : ﷺ : જિસ શખસ ને કુરાને પાક સીખા ઓર સિખાયા ઓર જો કુછ કુરાને પાક મેં હૈ ઉસ પર અમલ કિયા, કુરાન શરીફ ઉસ કી શફાઅત કરેગા ઓર જગ્નત મેં લે જાઓ॥

(تاریخ مدینۃ الرسول / ۳۱، محرم، کربلا / ۱۴۸، حدیث: ۱۰۷۵)

Maktabatul
Madina

M.R.P.
₹ 00/-



- 📍 Mohammad Ali Road, Mandvi Post Office, Mumbai 📞 9022177997, 9320558372
- 📍 Faizane Madina, Teen komya Baghicha, Mirzapur, Ahmedabad 📞 9327168200
- 📍 421, Urdu Market, Matia Mahal, Near: Noor Guest House, Jama Masjid, Delhi
- 📞 011-23284560, 8178862570
- ✉️ feedbackmnhind@gmail.com
- 🌐 www.dawateislamihind.net